

یو اینکر و فنانس بینک لمیٹڈ

جدول اخراجات - برانچ بینکاری

01 جولائی تا 31 دسمبر 2026

1- فنانسنگ پراڈکٹس

برائے کرم فنانسنگ پراڈکٹس کے پرافٹ ریٹس اور پروسیسنگ فیس کیلئے برانچ میں اور بینک کی ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیں

فنانسنگ پراڈکٹس کے چارجز اور چیرمیٹی

250,000 روپے تک کی رقم = 1,000 روپے + FED	فنانسنگ سپلکیشن فیس
250,000 سے 750,000 روپے تک کی رقم = 3,000 روپے + FED	
750,000 سے 1 ملین روپے تک کی رقم = 4,000 روپے + FED	
1 ملین سے 3 ملین روپے تک کی رقم = 6,000 روپے + FED	
3 ملین سے 5 ملین روپے تک کی رقم = 8,000 روپے + FED	
100 روپے فی لیٹ قسط	دیر سے ادائیگی کرنے پر مراعات فنانسنگ کی پراڈکٹس کی چیرمیٹی
500 روپے فی لیٹ قسط	دیر سے ادائیگی کرنے پر ڈیٹنگ مشا کہ فنانسنگ کی پراڈکٹس کی چیرمیٹی
کوئی نہیں	دیر سے ادائیگی کرنے پر مسلم کی پراڈکٹس کی چیرمیٹی
فنانسنگ اختتام ہونے کے تین دن تک کو لیٹرل بینڈ لنگ کے کوئی چارجز نہیں ہے تاہم اسکے بعد	تصفیہ کے بعد کو لیٹرل بینڈ لنگ
1,000 روپے دس دن تک، اور زیادہ سے زیادہ 10,000 روپے	
5,000 روپے + FED	کو لیٹرل نیلای چارجز

* چیرمیٹی کی رقم پر ٹیکس لاگو نہیں ہوں گے۔

2- ریمیشنس سے متعلق چارجز

آمدنی کا سرٹیفکیٹ		300 روپے
آن لائن ٹرانزیکشن		
انٹر برانچ کیش ڈپازٹ	مفت	
انٹر برانچ کیش وڈرال	مفت	
انٹر برانچ اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ فنڈ ٹرانسفر	مفت	
RTGS چارجز اور اوقات کار	RTGS چارجز (سوموار تا جمعہ)	220 روپے بمعہ (9 بجے صبح تا 12 بجے رات) 330 روپے بمعہ (2 بجے دوپہر تا 3:30 بجے دوپہر) (رات 12 بجے تا 2 بجے صبح) 550 روپے بمعہ
RTGS چارجز (سوموار تا جمعہ)	RTGS چارجز (سوموار تا جمعہ)	100,000 روپے سے 999,999 تک 30 روپے بمعہ (9 بجے صبح تا 3:30 بجے دوپہر)

پینٹ آڈر (اکاؤنٹ ہولڈر کے لئے)

پینٹ کا اجراء، دوبارہ پینٹ اور منسوخی	فی عدد 500 روپے
---------------------------------------	-----------------

پینٹ کا اجراء کیش کی مد میں	500 روپے فی اجراء
پینٹ آڈر (واک ان کسٹر کے لیے)	
پینٹ کا اجراء، دوبارہ اجراء اور منسوخی	فی عدد 750 روپے فی اجراء
(CDR) کال ڈپازٹ رسید	
کال ڈپازٹ کا اجراء	مفت
کال ڈپازٹ رسید کی تفتیش اور دوبارہ تصدیق	150 روپے فی عدد

3- کلئیرنگ اور وصولی		
لوکل کلئیرنگ چارجز	مفت	
نارمل کلئیرنگ ان ورڈ ریٹرن چارجز	300 روپے	
انٹرنسٹی کلئیرنگ چارجز	300 روپے	
انٹرنسٹی آؤٹ ورڈ کلئیرنگ چارجز	300 روپے	
سیم ڈے آؤٹ ورڈ کلئیرنگ چارجز	300 روپے	
سیم ڈے کلئیرنگ ریٹرن چارجز	300 روپے	
نارمل آؤٹ ورڈ کلئیرنگ چارجز		
نارمل اور سیم ڈے آؤٹ ورڈ کلئیرنگ ریٹرن چارجز		
OBC		
جمع کرانے کے لیے بیرونی بل (ریپائزیشن)	250 روپے DD چارجز پیش کردہ پراجیکٹ کے لیے	
OBC چیک کے دوبارہ چارجز	فی عدد 200 روپے	
4- لاکرز		
سیکیورٹی ڈپازٹ، کی ڈپازٹ اور کی لاکرز کی فیس پیشگی وصول کی جائے گی۔		
سالانہ کرایہ	کم سے کم	درمیانہ
	2500 روپے	4500 روپے
سیکیورٹی ڈپازٹ	جو بھی سائز ہو گا اسکے ایک سال کے کرایہ کے برابر	
کی ڈپازٹ	2000 روپے تمام سائز کیلئے	
توڑنے کے چارجز	اصل خرچہ	
دیر سے ادائیگی کرنے پر چیریٹی	300 روپے لیٹ ہونے کے ایک ماہ کے بعد	
نوٹ: لاکرز کی بازیابی کے بعد سیکیورٹی ڈپازٹ اور کی ڈپازٹ کی رقم واپس کر دی جائے گی مزید یہ کہ یوبینک سٹاف سیکیورٹی اور کی ڈپازٹ فیس سے مستثنی ہیں۔		
5- اکاؤنٹ سے متعلق چارجز		
چیک بک چارجز	25 روپے فی چیک	
مرتب شدہ (کسٹمائزڈ) چیک بک چارجز	35 روپے فی چیک	
ایڈہاک اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ	35 روپے	
اکاؤنٹ بیلنس سرٹیفکیٹ کا اجراء	250 روپے	
اسٹاپ پیمنٹ (یعنی رقم کی ادائیگی رکاوٹ دینے کے چارجز)	400 روپے فی اسٹاپ اور 500 روپے سیریز کیلئے	
مستقل ہدایات	(فی اسٹاپ 100 روپے + FED)	

300 روپے	بیلنس کنفرمیشن تھرڈ پارٹی کیلئے
20 روپے فی ماہ (اگر کسٹمر کم از کم 5,000 روپے فی ماہ برقرار رکھے فیس معاف ہوگی)	اکاؤنٹ بحالی فیس ☆ (کرنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ ہولڈر کیلئے)
250 روپے	ہولڈر میل
200 روپے	اداشدہ چیک کی فوٹو کاپی
کوئی نہیں	اکاؤنٹ بند کرانے کے چارجز
☆ آسان اور ریگولر سیونگ اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔	

6- فری سروسز

یو اسلامک نور اکاؤنٹ	
درج ذیل ویلویو ایڈڈ مفت خدمات ان صارفین کے لیے دستیاب ہوں گی جو 10,000 روپے اور اس سے اوپر ماہانہ اوسط بیلنس (MAB) برقرار رکھتے ہیں۔	
پہلی چیک بک مفت	
پہلا ڈیبٹ کارڈ (پے پاک) مفت	
پے آرڈرز مفت	
چھوٹے لاکر کی سالانہ فیس پر 50% ڈسکاؤنٹ (جہاں دستیاب ہوں)	

7- ڈیبٹ کارڈ

ڈپازٹ اور فنانسنگ کسٹمر کے لیے	
1100 روپے فی کارڈ FED+	پے پاک ڈیبٹ کارڈ کا اجراء، سالانہ (دو بارہ سالانہ فیس) اور کارڈ کی تبدیلی
1100 روپے فی کارڈ FED+	یونین پے ڈیبٹ کارڈ کا اجراء، سالانہ (دو بارہ سالانہ فیس) اور کارڈ کی تبدیلی
35 روپے	رقم نکوانا (MNET اور 1 لنک سے)
مفت	یونینک کے اے ٹی ایم سے رقم نکوانا
4.67 روپے	بیلنس انکوئری (صرف ایم این ای ٹی نیٹ ورک کیلئے)
مفت	بیلنس انکوئری (یونینک کے اے ٹی ایم سے)

IBFT چارجز

آئی بی ایف ٹی) سے یو پیسک اے ٹی ایم اور انٹرنیٹ اور موبائل بینکنگ (برانچ بینکنگ اکاؤنٹس)	ماہانہ رقم کی حد	چار جز (روپے)
0	25,000 تک مہینہ	0
ایک مہینہ میں 25,000 روپے سے زائد پر	0.1 فیصد ٹرانزیکشن کے رقم یا 200 روپے جو بھی کم ہو فی ٹرانزیکشن	
8- متفرق چار جز		
اداشدہ چیک کی فوٹو کاپی	200 روپے	
کسٹمر کی ہدایات کے مطابق کوریئر اور میلنگ چار جز	200 روپے	
دستاویزات کی بازیافتگی	200 روپے فی دستاویز جو کہ 6 ماہ سے پرانا ہو	
ادارہ جاتی تنخواہ کی تقسیم	جیسا کہ کمپنی کے ساتھ معاہدہ طے پایا	
قانونی رائے اور تخمینہ کار کے چار جز		
مکان آسان ڈمنشنگ مشار کہ لئے قانونی رائے اور تصدیقی کاغذات	12,000 روپے یا تخمینہ کار کو براہ راست ادائیگی	
ڈمنشنگ مشار کہ پراڈکٹس کے دستاویزات کے چار جز	اصل خرچ	
ڈمنشنگ مشار کہ فنانسنگ کے ویلیوشن کے چار جز	5000 روپے تک یا پینل تخمینہ کار کو براہ راست ادائیگی	
اثاثہ واپس لینے (ری پزیشن) کے چار جز	اصل خرچ	
9. ٹرم ڈپازٹ اری ٹرمینیشن کا طریقہ کار		
آخری مکمل مدت (پہلے مہینہ میں جلد ختم ہونے کی صورت میں ریگولر سیونگ اکاؤنٹ کی شرح منافع لاگو ہو جائے گی)		
A-نوٹ		
1. وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے لاگو کردہ FED اور دیگر ٹیکسز اوپر دیئے گئے چار جز کے علاوہ ہوں گے۔		
2-FED کا اطلاق مذکورہ بالا تمام سروسز پر ہو گا جو منافع کی آمدنی کی مالی اعانت پر مبنی نہیں ہیں۔		
3-سرکاری، نیم سرکاری، طالب علموں اور بیواؤں کی پنشن کیلئے اور یو پیسک کے عملے کے لئے بنائے گئے اکاؤنٹ باقاعدہ بینک چار جز سے مستثنیٰ ہوں گے		
4-محفوظ فنانسنگ کے حوالے سے قانونی دستاویزات کے چار جز اصل میں صارفین سے وصول کیئے جائیں گے۔		
5-ودہولڈنگ ٹیکس موجودہ شرح جات کے تابع ہے جو وقتاً فوقتاً تبدیل ہو سکتی ہے۔		
6-شرعیہ ایڈوائیز اور بینک کی مجاز اتھارٹی کسی بھی یا تمام چار جز کو معاف کر سکتی ہے۔		
7-کو لیٹرل آکشن چار جز درخواست دہندہ کی طرف سے براہ راست بینک کے پینل کے منظور شدہ تخمینہ کار کو ادا کیئے جائیں گے جو ویلیوٹر کے ساتھ بینک کے معاہدہ کے مطابق ہوں گے۔		
8-بقایا رقم کو اصل میں کسٹمر کے اکاؤنٹ میں منتقل کرنے سے پہلے کو لیٹرل ویلیوشن چار جز کو کو لیٹرل کی سیلز سے کاٹ لیا جائے گا۔		
9-کوئی بھی چار جز جو اس شیڈول کے تحت شامل نہیں ہیں کسٹمر کے ساتھ معاہدہ کے مطابق کیس ٹوکیس الگ سے وصول کیئے جائیں گے۔		
10-01 لنک کے چار جز جو اصل میں ہوں گے وہی لینے جائیں گے۔		
اسٹاف کے اکاؤنٹ کے لیے ڈیٹ کارڈ چار جز، چیک بک چار جز اور اکاؤنٹ مینٹیننس فیس ختم کر دی گئی ہے۔		